





Magozwe



- Lésley Koyi
- Wiehan de Jager
- Samrina Sana
- urdu / nyorsk
- III nivå 5

Dette verket er lisensiert under en Creative Commons
Navngivelse 4.0 Internasjonal Lisens.
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no>

Denne fortellingen kommer fra African Storybook
(africanstorybook.org) og er videreført midt av
Barnebøker for Norge (barnebokern.no), som tilbyr
barnebøker på mange språk som snakkes i Norge.

Overrett av: Wiehan de Jager
Illustrert av: Lésley Koyi
Oversatt av: Samrina Sana (ur), Espen Strangere-
johannessen, Martine Rørstad Sand (nn)

← „jf“ / Magozwe

barnebokern.no

Barnebøker for Norge





نیروبی کے مصروف شہر میں گھر کی دیکھ بھال سے بہت دور ایسے لڑکوں کی ایک ٹولی رہتی تھی جن کے پاس گھر نہیں تھا۔ وہ ہر آنے والے دن کو ایسے ہی گزار دیتے جیسے وہ گزرتا۔ ایک صحیح ٹھہر دی سڑک پر سو کر اٹھنے کے بعد لڑکے اپنے بستر لپٹر ہے تھے۔ سردی کو بھا نے کے لیے، انہوں نے کوڑے کی مدد سے آگ جلانی ہوئی تھی۔ لڑکوں کی ٹولی میں سے سب سے چھوٹا مگزوے تھا۔

...

I den travle byen Nairobi, langt frå det trygge livet heime, budde det ein gjeng heimlause gutar. Dei tok kvar dag akkurat som han kom. Ein morgen pakka gutane saman mattene sine etter at dei hadde sove på det kalde fortauet. For å fordriva kulda laga dei eit bål av søppel. Ein av gutane i gjengen var Magozwe. Han var den yngste.



مگزوے سبز پھرت وا لے گھر کے باجیتے میں یہا ایک کہانی کی کتاب پڑھ رہا تھا جو کہ اُس سے سکول کی طرف سے ملی تھی۔ ہمامس اُس کے پاس آ کر یہا کہانی کس بارے میں ہے؟ ہمامس نے پوچھا؟ یہ ایک ایسے لڑکے کے بارے میں ہے جو اسٹاد بینا چاہتا تھا۔ مگزوے نے جواب دیا۔ اُس لڑکے کے کا نام کیا ہے؟ ہمامس نے پوچھا؟ اُس کا نام مگزوے ہے، اُس نے مسکرا تے ہو آئے کہا۔

...

Magozwe sat på tunet ved huset med det grøne taket og las ei barnebok frå skulen. Thomas kom og sat seg ved sida av han. "Kva handlar forteljinga om?" spurde Thomas. "Ho handlar om ein gut som vert lærar", svara Magozwe. "Kva heiter guten?" spurde Thomas. "Han heiter Magozwe", svara Magozwe med eit smil.



Då Magozwe sine foreldre døydde, var han berre fem år.
Han drog for å bu med onkelen sin. Denne mannen
bydde seg ikkje om barnet. Han gav ikkje Magozwe nok
mat. Han tvang gauren til å jobba hardt.

...
- ئىلار ئىپلىرىنىڭ سەنگىزى -
ئىلار ئىپلىرىنىڭ سەنگىزى - ئىلار ئىپلىرىنىڭ سەنگىزى -
ئىلار ئىپلىرىنىڭ سەنگىزى - ئىلار ئىپلىرىنىڭ سەنگىزى -



Magozwe byrja på skulen, og det var vanskeleg. Han hadde mykje å ta att. Av og til ville han gjie opp. Men han tenkte på piloten og fotballspelaren i barnebokene. Som dei gav han ikkje opp.



اگر مگوزے شکایت کرتا یا سوال اٹھاتا تو اُس کے پچھا اُس کو مارتا۔ جب مگوزے نے سکول جانے کے لیے پچھا تو اُس کے پچھا نے اُسے مارا اور کہا تم سیکھنے کے قابل نہیں ہو۔ تین سال یہ سب ہنسنے کے بعد مگوزے اپنے پچھا کے گھر سے بھاگ گیا۔ اُس نے گلی پر رہنا شروع کر دیا۔

...

Viss Magozwe klagar eller stilte spørsmål, slo onkelen hans han. Når Magozwe spurde om han kunne gå på skulen, slo onkelen hans han og sa: "Du er for dum til å læra noko som helst." Etter tre år med denne behandlinga rømde Magozwe frå onkelen sin. Han byrja å bu på gata.



اور اس طرح مگوزے ایک نہے کھرے میں داخل ہوا جس کی چھت سبز تھی۔ وہاں اُس نے دو اور لڑکوں کے ساتھ کھرے بانٹا۔ اُس گھر میں کل دس بچے رہتے تھے۔ آنٹی سیسی اور ان کے خاوند، تین کھتے، ایک بلی اور ایک بوڑھی بکری کے سہیت۔

...

Dermed flytta Magozwe inn i eit rom i eit hus med grønt tak. Han delte rommet med to andre gutter. Til saman var det ti born som budde i det huset. Saman med tanta Cissy og mannen hennar, tre hundar, ein katt og ei gammal geit.

Livet på gata var vansklig, og dei fleste gutane sløit
 kvar dag berre for å finna mat. Nokre gonger vart dei
 arrestert, andre gonger vart dei slakt. Når dei vart sjuk,
 avhengig av dei få pengane dei fekk frå å tilgå og frå
 selja plast og anna til resirkulering. Livet var endå
 vanskeligare på grunn av slåsskamper med

...


-*لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الْمُحَاجَةِ إِذَا
 قَاتَلُوكُمُ الظَّالِمُونَ وَلَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ
 الْمُحَاجَةِ إِذَا قَاتَلُوكُمُ الظَّالِمُونَ وَلَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ
 الْمُحَاجَةِ إِذَا قَاتَلُوكُمُ الظَّالِمُونَ وَلَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ
 الْمُحَاجَةِ إِذَا قَاتَلُوكُمُ الظَّالِمُونَ وَلَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ
 الْمُحَاجَةِ إِذَا قَاتَلُوكُمُ الظَّالِمُونَ وَلَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ*



Han snakka om det han var redd for med Thomas. Med
 tiida forsikra mannen gutten om at livet kunne vera betre
 på den nye staden.

...

-*لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الْمُحَاجَةِ إِذَا
 قَاتَلُوكُمُ الظَّالِمُونَ وَلَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ*



rivaliserande gjengar som ville ha kontroll over delar av byen.



مگوڑے نے اُس نئی جگہ اور سکول جانے کے بارے میں سوچا، کیا ہو اگر اُس کے چاکی کہی بات تھیک نکلی اور وہ واقعی پڑھ لکھنے سکا؟ کیا ہوگا اگر اُس نئی جگہ پر اُسے مار پڑی؟ وہ خوف زدہ ہوا کہ شاید گلی میں رہنا ہی بہتر ہے
اُس نے سوچا۔

...

Magozwe tenkte på denne nye staden og på å gå på skulen. Kva om onkelen hans hadde rett og han var for dum til å læra noko? Kva om dei slo han på denne nye staden? Han var redd. "Kanskje det er betre å bu på gata", tenkte han.

Elin dag medan Magozwe leitte i nökrе söppelbötter,
fann han ei gammal fillete barnebok. Han fjerna mörkka
frå ho og la den i sekken sin. Kvar på frölgjande dag tok
han ut boka og såg på biljetta. Han visste ikkje korleis han
skulle lesa ordet.

• • •

وَمِنْهُمْ مَنْ يَرْجُو حَيَاةً دُنْدُونًا فَلَا يَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَفْعَلُونَ



gå på skule.



تصاویر ایک ایسے لڑ کے کی کہانی پیش کرتیں جو بڑا ہو کر کھپاں بننا چاہتا تھا۔
مگزوے صرف اس کے خواب دیکھ سکتا تھا۔ کچھ وقت کے لیے وہ
خیال کر لیتا کہ کہانی میں موجود لڑکا وہ خود ہے۔

...

Bileta fortalte forteljinga om ein gut som voks opp til å verta pilot. Magozwe brukte å dagdrøyma om å verta pilot. Nokre gonger innbilte han seg at han var guten i forteljinga.



مگزوے کی دسویں سالگرہ پر یحہ مس نے اس کو ایک نئی کہانی کی کتاب
تحفے میں دی۔ یہ کہانی ایک گاؤں کے لڑکے کے بارے میں تھی۔ جو
کہ بڑا ہو کر ایک مشہور فیٹا لر بننا چاہتا تھا۔ یحہ مس نے مگزوے کو وہ کہانی کی
بارپڑھ کر سنائی۔ حق کہ ایک دن اس نے کہا یہ رے خیال سے تمہیں
سکول جانا چاہیے اور پڑھنا لکھنا سیکھنا چاہیے۔ تمہارا کیا خیال ہے؟
یحہ مس نے اس سے تفصیل سے بتایا کہ وہ ایک جگہ کے بارے میں جانتا
ہے جہاں جچے رہ سکتے ہیں اور سکول جا سکتے ہیں۔

...

Omkring Magozwes tiande fødselsdag gav Thomas han ei ny barnebok. Det var forteljinga om ein landsbygut som voks opp til å verta ein berømt fotballspelar. Thomas las den forteljinga for Magozwe mange gonger, heilt til han ein dag sa: "Eg synest det er på tide at du går på skulen og lærer å lesa. Kva synest du?" Thomas forklarte at han visste om ein stad der born kunne bu og

Det var kaldt og Magozwe stod langs vegen og tagg. Ein mann gjekk bort til han. „Hei, eg heter Thomas. Eg bur i nærleiken, på ein stad der du kan få deg noko å eta“, sa han og peikte på eit gutt hus med blått tak. „Eg høpar du drøg dit for å få deg litt mat?“ spurde han. Magozwe ság på han, og deretter på huset. „Kanskje“, sa han og gjekk.

•

— گرایشی، این ری: میانه-خواه که چو خواست
اوه خواه بکار گیرد: سبزه-خواه: میاذار، خواست
با خوشی لیور، پنیر، گلابی-خواه: میخواست
خواره-خواه: می-خواه: گلاد: خواست: خواست
شتره-خواه: سبزه-خواه: میخواست: خواست: خواست
خواره-خواه: میخواست: خواره-خواه: میخواست: خواست



Då dei møttest, byrja Magozwe å fortelja si eiga historie til Thomas. Det var historia om onkel hans og kvifor han rømde heimanafrå. Thomas snakka ikkje mykje, og han sa ikkje til Magozwe kva han skulle gjjera, men han lyttar alltid oppmerksamt. Nokre gonger snakka dei saman medan dei åt i det gule huset med det blå taket.

•

وَلِلَّهِ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ الْمُرْسَلُونَ إِنَّمَا يُنَزَّلُ مِنْ رَبِّكَ مِنْ حِكْمَةٍ لِّئِنْ يَعْلَمُ مَنْ يُنْذَلُكُمْ بِمَا فِي أَنفُسِكُمْ وَلَا يُنَذَّلُكُمْ بِمَا تَعْمَلُونَ





کچھ مہینوں بعد، گھر کے بیرون لڑکوں نے روز تھامس کو اپنے اردو گردی کھانا شروع کیا اُس سے لوگوں سے بات کرنا پسند تھا۔ خاص طور پر ان لوگوں سے جو گلیوں میں رہتے۔ تھامس ان سے اُن کی زندگی کی کہانیاں سنایا۔ وہ بہت سخیندہ اور صبریں رہتا اور کچھی اُن سے تعلق کلامی اور بد تیزی نہ کرتا۔ کچھ لڑکے اُس پر لے اور نیلے گھر میں دوپھر کو کھانا لینے جاتے۔

...

I månadene som følgde vart dei heimlause gutane vande til å sjå Thomas. Han likte å snakka med folk, spesielt dei som budde på gata. Thomas hørde på forteljingar om liva til folk. Han var seriøs og tolmodig, aldri frekk eller respektlaus. Nokon av gutane byrja å dra til det gule og blå huset for å få mat midt på dagen.

مگوزوے سڑک پر یہا کتاب میں اپنی تصویر دیکھ رہا تھا۔ جب تھامس آکر اُس کے پاس یہا۔ یہ کہانی کس بارے میں ہے؟ تھامس نے پوچھا۔ یہ ایسے لڑکے کے بارے میں ہے جو کہ کپتان بنا مگوزوے نے جواب دیا۔ اُس لڑکے کا کہیانام ہے؟ تھامس نے اُس سے پوچھا۔ میں نہیں جانتا، میں پڑھ نہیں سکتا مگوزوے نے چپکے سے جواب دیا۔

...

Magozwe sat på fortauet og kika i biletboka då Thomas kom og sette seg ved sida av han. "Kva handlar forteljinga om?" spurde Thomas. "Ho handlar om ein gut som vert pilot", svara Magozwe. "Kva heiter guten?" spurde Thomas. "Eg veit ikkje, eg kan ikkje lesa", svara Magozwe lågt.